

زیر التوا ٹریڈنگ آرڈر کی منسوخی

انٹرنیٹ ٹریڈنگ سافٹ ویئر کی عارضی مطلبی کی  
صورت میں زیر التوا ٹریڈنگ آرڈر کی منسوخی  
کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔

+924236369991-8

## ثالث: (Arbitration)

ثالثی ایک ترتیب ہے۔ جس میں دو افراد اپنے اختلاف کو تیسرے منتخب فریقین کی موجودگی میں حل کرتے ہیں اور ایک باہمی رضامندی سے ایک فیصلے کو قبول کرتے ہیں لہذا پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PBR) دو فریقین کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعے کو اپنی ٹیم کی موجودگی میں باہمی رضامندی سے حل کرتی ہے۔ اور فریقین کو پابندی کرتی ہے۔ کہ وہ ثالثی میں ہونے والے فیصلے کو قبول کریں۔

## فریقین:

فریقین پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ثالثی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جب بروکرز کے مابین تنازع ہوں  
بروکرز اور ایجنٹ کے مابین تنازع ہوں۔  
بروکر اور سرمایہ کار کے مابین تنازع ہوں۔

## تنازعات کی اقسام

سرمایہ کار کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں غیر مجاز ٹریڈنگ  
سرمایہ کار کے لیجر اکاؤنٹ میں متفرق چارجز  
زائد کمیشن چارجز

تصدیق Email کی غیر ترسیل

ادائیگی میں تاخیر اور ادائیگی نہ کرنا۔

سرمایہ کار کی ہدایات پر عمل نہ کرنا۔

## ثالثی کا عمل:

درخواستوں کی جانچ پڑتال

درخواستوں کی منظوری اور نامنظوری کا عمل

منظور شدہ درخواستوں کی واحد ثالث یا ذیلی ثالث پینل کے حوالے کرنا۔

دونوں فریقین کو سماعت کے نوٹس جاری کرنا۔

دونوں فریقین کو سماعت کے دوران برابری کی بنیاد پر اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دینا۔

ثالث کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ فیصلہ درخواست موصول ہونے کے 90 دن کے اندر کرنا ہوگا۔

کوئی بھی فریق اگر ثالث کے فیصلے سے متفق نہ ہوگا تو وہ ریگولیٹری ایفیر کمیٹی میں 15 دن کے اندر اپیل کر سکتا ہے۔

## سیکیورٹیز ٹریڈنگ کا نقصان

IBTS سسٹم کے ناکام ہونے کا خطرہ

IBTS سسٹم کے ناکامی کاروباری اوقات کار میں ہو سکتی ہے۔ جس کی وجہ فی خرابیاں ہیں جس سے اکاؤنٹ ہولڈر کو نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ وقت پر آرڈرز کے اجراء کے لئے ٹریڈنگ کی عدم دستیابی یا مطلوبہ قیمت اگر محدود آرڈر IBTS میں نہیں دی جاتی اس کے علاوہ سسٹم کی ناکامی کے دوران آرڈر کی منسوخی بھی اکاؤنٹس ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں خسارے کا سبب بنتا ہے۔

## اقتصادی خطرہ:

کسی بھی کمپنی کی کاروباری کارکردگی کا انحصار اقتصادی نشوونما پر ہوتا ہے۔ جو کہ مستقبل طور پر ان کمپنیز کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے۔ کہ اس نشوونما کی وجہ سے انھیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جبکہ شیئر ہولڈرز کو بھی اقتصادی امور کے موثر ہونے کی وجہ سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقتصادی سے متعلق خطرات عموماً GDP نشوونما، افراط زر، ادائیگی کی پوزیشن میں بیلنس، انٹریسٹ ریٹ، کریڈٹ نشوونما کے عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔

## انڈسٹری کا نقصان:

تمام صنعتیں حلقہ وار طریقہ سے نشوونما پاتی ہیں۔ اور شیئر ہولڈرز ابتدائی مراحل میں اس ریوارڈ حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ ایک بار انڈسٹری مطلوبہ مرحلے پر پہنچتی ہے۔ تو سرمایہ کاری کار ریوارڈ محدود ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ صنعتوں سے متعلق کمپنیاں جس کی وجہ سے ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری سے ہونے والے ریٹرنز پر بھی اثر پڑتا ہے۔

## کاروباری نقصان:

کاروباری نقصان جو کہ کمپنی کے کام کرنے کے دوران ہوتا ہے۔ اور حالات آمدنی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے متوقع ڈویڈنڈ حاصل نہیں ہوتا۔

## مالیاتی نقصان:

یہ ممکن ہے کہ شیئر ہولڈر جب اس کمپنی میں سرمایہ کاری کریں جو کہ قرض کے تلے ہے تو وہ انہیں رقم کا خسارہ ہوتا ہے۔ اگر کمپنی کی کارکردگی مالیاتی امور کے مطابق نہیں ہے۔ جب ایک کمپنی قرضہ کے تحت مالیت کو استعمال کرتی ہے۔ تو اس کے کریڈیٹرز اس کے شیئر ہولڈر سے پہلے ہی رقم کی واپسی کریں گے اگر کمپنی کو دیوالیہ ہو جائے۔ مالیاتی نقصان جو کہ کارپوریشن یا گورنمنٹ کی غلطی کہ وجہ سے بھی ممکن ہے۔ جس کی وجہ سے ان بانڈ ہولڈرز کو مالی طور پر نقصان ہوتا ہے۔

## ایکسچینج ریٹ کا نقصان:

کرنسی میں اتار چڑھاؤ جو کہ آمدنی پر اثر ڈالتا ہے۔ جس کے نتیجے میں قیمتوں پر اثر پڑتا ہے۔

## افراط زر کا نقصان:

قیمتوں کا بڑھنا یا افراط زر کی خرید کی قوت میں کمی کی وجہ سے ایک عام آدمی اقتصادی حالت میں بے حد پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس کا اثر اقتصادی امور میں تمام سیکٹرز پر ہوتا ہے۔

## انٹریسٹ ریٹ کا نقصان:

انٹریسٹ ریٹ میں اضافہ جب کہ اسٹاک مارکیٹ سے عدم سرمایہ کاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر تجارت میں کمی اور سرمایہ کاری میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔

# تجارتی عمل اور تصفیہ

آرڈر کا تعین  
آرڈر کے ملاپ  
آرڈر کا عمل  
ٹریڈز کی توثیق

تصفیہ کے لئے ایک بیک اپ میں مرتب  
شدہ احکامات اپ لوڈ کریں

میمو کی توثیق گاہک کو ای میل کریں، کمیشن  
چارجز کے ساتھ ساتھ لین دین کی تفصیلات کی

حصص کلانٹ کے سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ یا گاہک کے  
سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ سے بیچنے والے کو حصص کی  
پر  $T + 0$  اور  $T + 2$  ترسیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کلانٹ  
پہانسی تجارت کے خلاف بقایا رقم (اگر کوئی) ادا کرے گا

سٹاک مارکیٹ کیا ہے۔

سٹاک مارکیٹ میں عوامی سطح پر منعقد کمپنیوں کے حصص جاری کے جاتے ہیں۔ اور ان حصص میں ٹریڈنگ (لین دین) بھی سٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کو (ایکوٹی مارکیٹ) کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔

حصص:

حصص ایک مالیتی انسٹرومنٹ ہے جو کسی بھی ادارے میں ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کسی بھی ادارے میں منافع اور نقصان کا برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

سرمایہ کار مارکیٹ کی اقسام:

☆ اسٹاک مارکیٹ

☆ کرنسی مارکیٹ

☆ اجناس کی مارکیٹ

انسٹریٹ ٹریڈنگ سافٹ ویئر کی بنیادی اصلاحات

1- حصص کوڈ/علامات (Symbol)

اسٹاک مارکیٹ میں درج ذیل کمپنیوں کو پاکستان سٹاک مارکیٹ کی طرف سے بنیادی ٹریڈنگ علامت تفویض کی جاتی ہے۔ تاکہ سرمایہ کار بہ آسانی ٹریڈنگ کر سکے۔

Fauji Fertilizer Company Limited (FFC)

Fauji Foods Limited (FFL)

2- حصص خرید: (Buy Order)

وہ قیمت جس پر سرمایہ کار حصص خریدتا ہے۔

3- حصص فروخت (Sell Order)

وہ قیمت جس پر سرمایہ کار حصص فروخت کرتا ہے۔

#### 4- حد آرڈر: (Limit Order)

ٹریڈنگ آرڈر کی وہ قسم جس میں سرمایہ کار ایک خاص مطلوبہ قیمت پر حصص خرید یا فروخت کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور یہ قیمت حصص کی موجودہ قیمت سے کم یا زیادہ ہوتی ہے۔

#### 5- موجودہ قیمت پر خرید و فروخت: (Current Price Order)

اسٹاک مارکیٹ میں جاری اور موجودہ قیمت پر خرید و فروخت کو عام طور پر (Current Price Order) کہا جاتا ہے۔

#### 6- زیادہ سے زیادہ قیمت: (High Price)

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران حصص کی زیادہ سے زیادہ قیمت

#### 7- کم سے کم قیمت: (Low Price)

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران حصص کی کم سے کم قیمت

#### 8- اوسط قیمت: (Average Price)

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران خرید و فروخت کی اوسط قیمت

#### 9- اختتامی قیمت: (Closing Price)

وہ قیمت جس پر حصص ٹریڈنگ اختتام پزیر ہوں۔

#### 10- قیمت میں تبدیلی: (Change Price)

اسٹاک مارکیٹ میں قیمت کی تبدیلی کو پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے موازنے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر حصص کی قیمت میں تبدیلی سبز

(Green) رنگ میں ہو تو حصص پچھلے دن کی اختتامی قیمت پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور سرخ رنگ کم قیمت پر ٹریڈنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ قیمت کی تبدیلی فی صد (%) اور پیسے میں ٹریڈنگ سافٹ ویئر پر ظاہر ہوتی ہے۔

## 11- حصص حجم: (Volume)

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران حصص کی خرید و فروخت کی تعداد۔

## 12- لاٹ سائز: (Lot Size)

حصص ٹریڈنگ اسٹاک مارکیٹ میں (Lots) کی شکل میں ہوتی ہے۔  
حصص قیمت کی حد

0.01 سے 100 روپے 500 حصص

100.01 سے 500 روپے 100 حصص

500.01 سے 1000 روپے 50 حصص

1000 روپے سے اوپر 20 حصص

## 13- لیورٹیج خرید: (Leverage Buy)

ادھار پر حصص کی خرید کو لیورٹیج (Leverage Buy) کہتے ہیں۔

## 14- مارجن: (Margin)

اسٹاک بروکر کی طرف سے فراہم کردہ قرض جس کی بنا پر سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ میں مالیت کے سرمایے کے ساتھ زیادہ مالیت کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔

اسٹاک بروکر کی طرف سے فراہم کردہ قرض (Margin) سرمایہ کار کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں موجود نقد اور حصص سے

Collateralized ہوتا ہے۔

## 15- مارجن کال: (Margin Call)

اسٹاک مارکیٹ میں نقصان کی صورت میں بروکر، سرمایہ کار سے درخواست کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نقد یا حصص ڈیپازٹ کریں تاکہ Margin کی مطلوبہ حد کو پورا کیا جاسکے۔

## 16- نقصان محدود کرنا: (Stop - Loss / Stop - Buy)

ایک سرمایہ کار کے نقصان کو محدود کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کہ جب حصص قیمت ایک مطلوبہ حد تک پہنچے تو حصص خرید و فروخت کے آرڈر خود کار طریقے سے دی گئی قیمت پر مارکیٹ میں Execute ہو جائے اور سرمایہ کار کسی بڑے نقصان سے بچ سکے۔

## 17- بنیادی ٹریڈنگ مارکیٹیں:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج سرمایہ کار سہولت کے لئے کئی قسم کی ٹریڈنگ مارکیٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

1- باقاعدہ مارکیٹ: Regular Market

2- مستقبل کے معاہدے: Future Contracts

3- انڈیکس کے معاہدے: Index Future Contracts